



## سوال

(132) سر میں کروٹ (انگریزی بال) رکھ کر اور داڑھی منڈوا کر نماز پڑھنی جائز ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

سر میں کروٹ (انگریزی بال) رکھ کر اور داڑھی منڈوا کر نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں اور کروٹ رکھنے والے اور داڑھی منڈانے والے کا کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

اس صورت اور شکل اور حالت میں بھی نماز پڑھنی جائز ہی نہیں بلکہ ضروری اور فرض ہے خلاف شرع شکل اور وضع قطع بنا لینے سے نماز ساقط نہیں ہوتی کروٹ رکھنے والا اور داڑھی منڈانے والا فاسق اور مخالفت طریقتہ رسول کے ہے۔ آن حضرت ﷺ فرماتے ہیں: ”من تشبه بقوم فهو منهم“، (الوداؤد: کتاب الصلاة، باب من احق بالامامة (575)/1 (393) اور فرماتے ہیں: ”احضوا الشوارب واعفوا للحمی“، و فی روایة ”وفروا للحمی“، (الوداؤد کتاب اللباس باب فی لبس الشهرة (4021) 4/214، بخاری کتاب اللباس، باب اعفاء اللحمی 7/56، مسلم کتاب الطهارة باب نضال الفطرة (59) 1/222)۔

(محدث دہلی ج: 9 ش: 10، محرم 1361ھ فروری 1942ء)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 230



## محدث فتویٰ